

16 جنوری 2018

## کسی شخص کو برامپٹن سٹیزنز ایوارڈ کے لیے نامزد کرنے کے لیے ابھی بھی وقت باقی ہے

برامپٹن، آن – 2017 برامپٹن سٹیزنز ایوارڈ کے لیے نامزدگیاں 31 جنوری کو ختم ہو رہی ہیں۔

سٹی آف برامپٹن سٹیزنز ایوارڈز پروگرام آپ کی جانب سے نامزد کردہ ان رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جنہوں نے کوئی مفید کاوشیں یا شاندار کامیابیاں حاصل کی ہوں۔ ایوارڈ 2017 کے شمسی سال کے دوران درج ذیل زمروں میں حاصل کی گئی کامیابیوں کے لیے دیے جاتے ہیں: آرٹس اکلیم، ایمرجنسی سروسز ایوارڈ آف ویلور، انسپیریشنل ایکٹس، لانگ ٹرم سروس اور سپورٹس اچیومنٹس۔ 2017 کے نئے ایوارڈز میں رضاکارانہ کاموں اور نوجوان رضاکاران کے لیے ایوارڈز شامل ہیں۔

1974 کے بعد اب تک سٹی آف برامپٹن اپنی کمیونٹی کے غیر معمولی رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کر کے فخر محسوس کرتا ہے۔

پروگرام کے متعلق معلومات یا حوصلہ افزائی کے مستحق کسی شخص کو نامزد کرنے کے لیے، [www.brampton.ca/citizensawards](http://www.brampton.ca/citizensawards) ملاحظہ کریں۔

### پروگرام کی شہ سرخیاں

- سپورٹس اچیومنٹ ایوارڈ کے ذریعے برامپٹن کے ایسے رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے جنہوں نے صوبائی، قومی یا بین الاقوامی سطح پر کوئی شاندار کامیابی حاصل کی ہو۔
- آرٹس اکلیم ایوارڈ کے ذریعے ایسے افراد کی کاوشوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے جنہوں نے مقامی، صوبائی، قومی یا بین الاقوامی سطح پر کسی فن کے شعبے میں اپنا لوہا منوایا ہو۔
- لانگ ٹرم سروس ایوارڈ کے ذریعے ایسے مخلص رضاکار شہریوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے جن کی کاوشوں نے تفریحی کھیلوں، فنون اور کمیونٹی کی سوشل سروسز میں قابل ذکر اثرات مرتب کیے ہوں۔
- انسپائریشنل ایوارڈ کے ذریعے برامپٹن کے ایسے شہریوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے جو اعلیٰ مشفقانہ اقدار کا پرچار کرتے ہوں اور/یا ان پر عملی کام کرتے ہوں یا ایسے شہری جو دوسروں کے لیے رغبت کا باعث بنے ہوں۔
- ایمرجنسی سروسز ایوارڈ آف ویلور کے ذریعے ایسے فرد یا افراد کی کاوشوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے جنہوں نے دوسروں کی زندگی/زندگیوں کو بچانے کے لیے رضاکارانہ طور پر اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا ہو۔
- 2017 کے لیے ایک نیا والنٹیئر آف دی ایئر ایوارڈ دیا جا رہا ہے، جس کے ذریعے برامپٹن کے ایسے رضاکاروں اور نوجوان رضاکاروں کی کاوشوں کی حوصلہ افزائی کی جائے گی جنہوں نے کسی مخصوص سرگرمی یا کردار کے بجائے پوری کمیونٹی کو وابستہ کیا ہو۔ اس ایوارڈ کے ذریعے ایسے مقامی لوگوں کی عزت افزائی کی جائے گی جنہوں نے کمیونٹیز کو بنایا ہو اور یہ ثابت کیا ہو کہ جذبے اور حوصلے کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔

-30-

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریٹور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں [ٹوئٹر](#) اور [فیس بک](#) پر فالو کریں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

**میڈیا کنٹیکٹ**

نتالی سٹوگڈیل

میڈیا کوآرڈینیٹر

سٹی آف برامپٹن

[natalie.stogdill@brampton.ca](mailto:natalie.stogdill@brampton.ca) 905.874.3654 |